

# Exo

## Chapter 15

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אֶזְרָא	יִשְׂרָאֵל	מֹשֶׁה	וּבְנֵי	יִשְׂרָאֵל	אֶת־	הַשִּׁירָה	הַזֹּאת	לַיהוָה	וַיֹּאמְרוּ
	تب	گایا	موسیٰ نے	اور-بنی	اسرائیل-نے	کو	گیت	یہ	خداوند-کے-لیے	اور-کہا-انہوں-نے
	<a href="#">H7891</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>			
	لְאֶמְרָם	אֲשִׁירָה	לַיהוָה	כִּי־	נֶאֱמַר	נֶאֱמַר	סוֹס	וְרִכְבּוֹ	רָמָה	בָּיָם:
	کہتے-ہوئے	گاؤں-گا-میں	خداوند-کے-لیے	کیونکہ	جلال	پایا-اس-نے	گھوڑا	اور-سوار-اس-کا	ڈالا	سمندر-میں
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H7891</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1342</a>	<a href="#">H1342</a>	<a href="#">H1342</a>	<a href="#">H7392</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H3220</a>

کو سوار کے اُس اور گھوڑے ہے۔ عظیم نہایت وہ کیونکہ گا، گاؤں گیت میں تمجید کی رب [میں گایا، گیت یہ لے کے رب نے اسرائیلیوں اور موسیٰ تب ہے۔ دیا پٹخ میں سمندر نے اُس

2	עֲזָרָא	וְזִמְרָתָהּ	יְהוָה	וַיְהִי־	לִי	לְיִשׁוּעָה	יְהוָה	אֱלֹהֵי	וַיֹּאמְרוּהוּ
	قوت-میری	اور-گیت-میرا	خداوند	اور-ہوا	میرے-لیے	نجات-کے-لیے	یہ	خدا-میرا	اور-تمجید-کروں-گا-اس-کی
	<a href="#">H5797</a>	<a href="#">H2176</a>	<a href="#">H3050</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3444</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H0410</a>		
	אֱלֹהֵי	אָבִי	וַיֹּאמְרוּהוּ:						
	خدا-کے	باپ-میرے	اور-بلند-کروں-گا-اسے						
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0001</a>							

کی اُس میں اور ہے، خدا کا باپ میرے وہی گا۔ کروں تعریف کی اُس میں اور ہے، خدا میرا وہی ہے۔ گیا بن نجات میری وہ ہے، گیت میرا اور قوت میری رب گا۔ کروں تعظیم

3	יְהוָה	אִישׁ	מִלְחָמָה	יְהוָה	שָׁמוֹ:
	خداوند	مرد	جنگ-کا	خداوند	نام-اس-کا
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8034</a>

ہے۔ نام کا اُس رب ہے، سورما رب

4	מִרְכָּבָתָהּ	פָּרְעֹה	וַחִילוֹ	יָרָה	בָּיָם	וּמִבְּחָר	שְׁלֹשִׁי	טַבְעוֹ	בָּיָם־
	رثیں	فرعون-کی	اور-لشکر-اس-کا	پھینکا	سمندر-میں	اور-چنے-ہوئے	سرداروں-اس-کے	ڈوبے	سمندر-میں
	<a href="#">H4818</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H4005</a>	<a href="#">H2883</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H3220</a>
	סוּף:	قلزم							
	<a href="#">H5488</a>								

گئے۔ ڈوب میں قلزم بحر افسران بہترین کے بادشاہ تو دیا پٹخ میں سمندر نے اُس کو فوج اور رتھوں کے فرعون

5	תְּהַמֵּנָתָהּ	יְכַסִּימוּ	יָרְדוּ	בְּמִצּוֹתָהּ	כָּמוֹ־	אֲבָן:
	گہرائیاں	ڈھانپ-لیا-انہیں	اترے	گہرائیوں-میں	پتھر-کی-طرح	پتھر
	<a href="#">H8415</a>	<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H4688</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H0068</a>

گئے۔ اتر تک تہ کی سمندر طرح کی پتھر وہ اور لیا، ڈھانک انہیں نے پانی گہرے

6	יְמִינָהּ	יְהוָה	נְאֻדָּרִי	בְּכַח	יְמִינָהּ	יְהוָה	תְּרַעַץ	אֹיִב:
	دایا-تیرا	خداوند	جلال-والا	قوت-میں	دایا-تیرا	خداوند	چکنا-چور-کرتا-ہے	دشمن
	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0142</a>	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7492</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H0341</a>

ہے۔ دیتا کر چور چکنا کو دشمن ہاتھ دینا تیرا رب، اے ہے۔ ہوتا ظاہر سے قدرت بڑی جلال کا ہاتھ دینے تیرے رب، اے

7	וּבְרָב	נְאֻנָּה	תַּהֲרִס	קָמִיד	הַשְׁלַח	חֲרָנָה	יֶאֱכֹלְמוֹ	כִּקְשׁ:
	اور-کثرت-میں	عظمت-تیری	گراتا-ہے	مخالفوں-تیرے	بھیجتا-ہے	غضب-تیرا	کھاتا-ہے-انہیں	بھوسے-کی-طرح
	<a href="#">H7230</a>	<a href="#">H1347</a>	<a href="#">H2040</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H7179</a>	

طرح کی بھوسے میں آگ وہ تو بے پڑتا آن پر اُن غضب تیرا ہے۔ دیتا پٹخ پر زمین کے کر اظہار کا عظمت اپنی تو اُنہیں ہیں ہوتے کھڑے اُنہ خلاف تیرے جو ہیں۔ جاتے جل

8	וּבְרוּחַ	אֶפְיֹה	נְעַרְמוֹ	מַיִם	נִצְבּוֹ	כְּמוֹ-	נָד	נִזְלִים	קָפְאוּ	תְּהַמֵּת	בְּלֶב-
	اور-ہوا-سے	نتھوں-تیری	ڈھیر-لگے	پانی	کھڑے-ہوئے	جیسے	ڈھیر	بہتے-ہوئے	جم-گئیں	گہرائیاں	دل-میں
	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H6192</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5324</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H5067</a>	<a href="#">H5140</a>	<a href="#">H8415</a>		

یہ:  
سمندر-کے  
[H3220](#)

گیا۔ جم تک گہرائی سمندر گیا، بن دیوار ٹھوس پانی بہتا گیا۔ جو جمع میں صورت کی ڈھیر پانی تو ماری پھونک کر آ میں غصے نے تو

9	אָמַר	אָזִיב	אֲרָרָה	אֲשִׁיב	אֶחְלַק	שָׁלַל	תִּמְלֹאמוֹ	נִפְשִׁי
	کہا	دشمن-نے	پیچھا-کروں-گا	پکڑوں-گا	تقسیم-کروں-گا	لوت	بھر-جائے-گی-ان-سے	جان-میری
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H5381</a>	<a href="#">H7998</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H5315</a>	

نیا-سے-نکالوں-گا  
تلوار-میری  
ہے-دخل-کرے-گا-انہیں  
باتھ-میرا  
یار:  
[H7324](#)  
[H2719](#)  
[H3423](#)  
[H3027](#)

گی، جائے جو سیر سے اُن جان لالچی میری گا۔ کروں تقسیم مال ہوا لوٹا کا اُن میں گا، لوں پکڑ اُنہیں کے کر پیچھا کا اُن میں کہا، کر مار ڈینگ نے دشمن گا۔ کروں ہلاک اُنہیں کر کھیچ تلوار اپنی میں

10	נִשְׁפֹּת	בְּרוּחָהּ	כִּסְמוֹ	יָם	צָלָלוּ	כְּעֹזְפֵי־רֵת	בְּמַיִם	אֲדִירִים:
	پھونکی-تو-نے	ہوا-تیری-سے	ڈھانپ-لیا-انہیں	سمندر-نے	ڈوبے	سیسے-کی-طرح	پانیوں-میں	زوردار
	<a href="#">H5398</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H6749</a>	<a href="#">H5777</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H0117</a>

گئے۔ ڈوب میں موجوں زوردار طرح کی سیسے وہ اور لیا، ڈھانک اُنہیں نے سمندر تو ماری پھونک پر اُن نے تو لیکن

11	מִי-	כְּמִנְחָה	בְּאֵלִם	יְהוָה	מִי	כְּמִנְחָה	נֶאֱדָר	נִזְרָא	תְּהַלֵּת
	کون-ہے	تیرے-مانند	معبودوں-میں	خداوند	کون-ہے	تیرے-مانند	جلال-والا	بیت-ناک	حمدوں
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H0142</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H8416</a>

عِשָׂה  
فָּלְא:  
کرنے-والا  
عجائب  
[H6382](#)

کوئی ہے؟ دکھاتا معجزے عظیم اور کرتا کام انگیز حیرت طرح تیری کون ہے؟ قدوس اور جلالی طرح تیری کون ہے؟ مانند تیری معبود سا کون رب، اے نہیں۔ بھی

12	נְטִיתָ	יְמִינָהּ	תִּבְלָעְמוֹ	אֲרָץ:
	بڑھایا-تو-نے	داہنا-تیرا	نگل-لیا-انہیں	زمین-نے
	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H1104</a>	<a href="#">H0776</a>

گئی۔ نگل کو دشمنوں ہمارے زمین تو اٹھایا ہاتھ دہنا اپنا نے تو

13	נְחִיתָ	בְּחִסְדָּהּ	עַם-	זו	נְאֻלָּתָ	נְהַלָּתָ	בְּעֻזָּהּ	אֶל-	נְהָ
	راہنمائی-کی-تو-نے	شفقت-تیری-سے	قوم	اس	چھڑائی-تو-نے	لے-گیا-تو-نے	قوت-تیری-سے	تک	مسکن
	<a href="#">H5148</a>			<a href="#">H2098</a>	<a href="#">H5095</a>	<a href="#">H5797</a>	<a href="#">H0413</a>		

قُدُشָׁה:  
قداست-تیری-کا  
[H6944](#)

تک گاہ سکونت مقدس اپنی اُسے نے تو سے قدرت اپنی ہے، کی راہنمائی کی اُس اور دیا چھٹکارا کو قوم اپنی کر دے عوضانہ نے تو سے شفقت اپنی ہے۔ پہنچایا

14	שָׁמַעוּ	עַמִּים	יִרְגְּזוּן	חַיִל	אֲחֻזָּה	יִשְׁבִּי	פְּלִשְׁתִּים:
	سنیں	قوموں-نے	کانہیں-گی	درد	پکڑا	رہنے-والوں-کو	فلسطین
	H8085		H7264		H0270	H3427	H6429

لگے۔ کھانے تاب و پیچ مارے کے ڈر فلسطی اُٹھیں، کانپ قومیں دیگر کر سن یہ

15	אָז	נִבְחָלוּ	אֶלּוּפֵי	אָדוּם	אֵילָי	מוֹאָב	יִאחֲזֵמוּ	רָעַד	נִמְּגוּ	כָּל	יִשְׁבִּי
	تب	گھبرا-گئے	سردار	ادوم-کے	طاقتور	مواب-کے	پکڑے-گا-انہیں	کانپ	پگھلے-گئے	سب	رہنے-والے
		H0926		H0123		H4124	H0270		H4127	H3605	H3427

جَنَعוּ:  
کنعان

گئے۔ بار ہمت باشندے تمام کے کنعان اور گئی، بو طاری کیکپی پر رابنماؤں کے موآب گئے، سہم رئیس کے ادوم

16	תָּפַל	עָלֵיהֶם	אֵימָתָהּ	נִפְחַד	בְּגִדָּל	זְרוּעֶיהָ	יִדְמּוּ	כָּאֶבֶן	עַד-
	گرے-گا	ان-پر	خوف	اور-دہشت	بڑائی-میں	بازو-تیرے-کی	خاموش-ہوں-گے	پتھر-کی-طرح	جب-تک
	H5307		H0367	H6343		H2220		H0068	H5704
	יַעֲבָר	עַמּוּדָה	יְהוָה	עַד-	יַעֲבָר	עַם-	זו	קָנִיתָ:	
	گزرے	قوم-تیری	خداوند	جب-تک	گزرے	قوم	یہ	خریدی-تو-نے	
			H3068	H5704			H2098	H7069	

و بے حس وہ گئی۔ نہ گزر قوم تیری تک جب بے نہ وہ رب، اے گئے۔ جم طرح کی پتھر وہ باعث کے قدرت عظیم تیری گیا۔ چھا پر اُن خوف اور دہشت گئی۔ نہ گزر قوم ہوئی خریدی تیری تک جب رہے حرکت

17	תְּבַאֲמוּ	וְתִשְׁעֲמוּ	בְּתַר	נִחְלָתֶיהָ	מִכּוֹן	לְשִׁבְתֶּיהָ	פְּעֻלָּתָהּ	יְהוָה
	لے-جائے-گا-انہیں	اور-ہوئے-گا-انہیں	پہاڑ-میں	میراث-تیری	جگہ	بسیرے-تیرے-کے-لیے	بنایا-تو-نے	خداوند
	H0935	H5193	H2022	H5159	H4349	H3427	H6466	H3068
	מִקְדָּשׁ	אֲדָנִי	כּוֹנֵנוּ	יְרִידָה:				
	مقدس	خداوند	قائم-کیں	ہاتھوں-تیرے				
	H4720	H0136		H3027				

اپنے نے ٹو جہاں ہے، لی جن لئے کے سکونت اپنی نے ٹو جو پر جگہ اُس گا، لگائے پر پہاڑ موروثی اپنے طرح کی پودوں کر لے کو لوگوں اپنے ٹو رب، اے بے-کیا تیار مقدس اپنا سے ہاتھوں

18	וְהִנְהָה	יְמֻלָּהּ	לְעֹלָם	וְעַד:
	خداوند	بادشاہی-کرے-گا	ابد-تک	اور-ہمیشہ
	H3068		H5769	H5703

ہے! بادشاہ تک ابد رب

19	כִּי	בָּא	סוּס	פָּרְעָה	בְּרִכְבּוֹ	וּבַפָּרָשִׁיו	בָּיָם	וַיִּשָּׁב	יְהוָה
	کیونکہ	آیا	گھوڑا	فرعون-کا	رٹوں-اس-کے-ساتھ	اور-سواروں-اس-کے-ساتھ	سمندر-میں	اور-لوتایا	خداوند-نے
		H0935		H6547	H7393		H3220	H7725	H3068
	עֲלֵהֶם	אֶת-	מַי	הַיָּם	וּבְנֵי	יִשְׂרָאֵל	הַלְכוּ	בְּיַבְשָׁה	בְּתוֹךְ
	ان-پر	کو	پانی	سمندر-کے	اور-بنی	اسرائیل	چلے	خشکی-پر	درمیان
		H0853	H4325	H3220		H3478	H1980	H3004	H8432

میں سمندر پر زمین خشک اسرائیلی لیکن لیا۔ ڈھانک سے پانی کے سمندر انہیں نے رب تو گئے چلے میں سمندر گھڑسوار اور رتھ گھوڑے، کے فرعون جب گئے۔ گزر سے

20	וַתִּקַּח	מְרִים	הַנְּבִיאָה	אֲחֹת	אֶחָיו	אֶת	הַדָּף	בְּיָדָהּ	וַתִּצְאֶן	כָּל	הַנָּשִׁים
	اور-لیا	مریم-نے	نبیہ	بہن	بارون-کی	کو	دف	ہاتھ-اپنے-میں	اور-نکلیں	سب	عورتیں
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H4813</a>	<a href="#">H5031</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8596</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0802</a>

אֲחֵיָּהּ : וּבְמַחֲלָתָּהּ :  
 بیچھے-اس-کے : دُفּוּ-کے-ساتھ اور-ناچتے-ہوئے  
[H8596](#) [H4246](#)

کر گا یہ نے مریم لگیں۔ ناچنے اور گانے سب لیں۔ بو پیچھے کے اُس کر لے دف بھی عورتیں تمام باقی اور لیا، دف نے تھی نبیہ جو مریم بہن کی بارون تب کی، راہنمائی کی اُن

21	וַתֵּעַן	לָהֶם	מְרִים	שִׁירוֹ	לֵיהֲנָהּ	כִּי	נָאָה	נָאָה	סוּס	וְרִכְבּוֹ
	اور-گائی	ان-کے-لیے	مریم-نے	گاؤ	خداوند-کے-لیے	کیونکہ	جلال	پایا-اس-نے	گھوڑا	اور-سوار-اس-کا
	<a href="#">H4813</a>	<a href="#">H4813</a>	<a href="#">H7891</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1342</a>	<a href="#">H1342</a>	<a href="#">H1342</a>	<a href="#">H7392</a>	<a href="#">H7392</a>	<a href="#">H7392</a>

רִמָּה : בָּיִם :  
 ڈالا سمندر-میں  
[H3220](#)

ہے۔ دیا پٹخ میں سمندر نے اُس کو سوار کے اُس اور گھوڑے ہے۔ عظیم نہایت وہ کیونکہ گاؤ، گیت میں تمجید کی ارب

22	וַיֹּסַע	מִנְשָׁה	אֶת	יִשְׂרָאֵל	מִיַּם	סוּף	וַיִּצְאוּ	אֶל	מְדִבְרַת	שׁוּר	וַיִּלְכְּדוּ
	اور-کوچ-کرایا	موسیٰ-نے	کو	اسرائیل	سمندر-سے	قلزم	اور-نکلے	طرف	بیابان	شور-کے	اور-چلے
	<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H5488</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7793</a>	<a href="#">H7793</a>	<a href="#">H3212</a>

שָׁלֹשֶׁת יָמִים : בְּמִדְבָּר וְלֹא : מִצְאוּ :  
 تین دن بیابان-میں اور-نہ پایا پانی  
[H7969](#) [H3117](#) [H3808](#) [H4672](#) [H4325](#)

ملا نہ پانی انہیں دوران اِس رہے۔ کرتے سفر تک دن تین وہ وہاں گئے۔ چلے میں شور دشت کر بو روانہ سے قلزم بحر اسرائیلی پر کہنے کے موسیٰ

23	وַיִּבְאוּ	מִדְבַּר	וְלֹא	יָכְלוּ	לְשַׁתֵּת	מַיִם	מִמֶּנָּה	כִּי	מְרִים	הָם	עַל	כֵּן
	اور-آئے	مارہ-میں	اور-نہ	سکے-وہ	بینا	پانی	مارہ-سے	کیونکہ	کڑوے	تھے-وہ	پر	اسی-لیے
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H4785</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H4785</a>	<a href="#">H4751</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H7793</a>	<a href="#">H7793</a>

קָרָא : שָׁמָּה :  
 رکھا-گیا نام-اس-کا مارہ  
[H7121](#) [H8034](#) [H4785](#)

گیا۔ پڑ کڑواہٹ یعنی مارہ نام کا مقام لئے اِس تھا، کڑوا وہ لیکن تھا۔ یاب دست پانی جہاں پہنچے مارہ وہ آخر کار

24	וַיִּלְכְּדוּ	הָעָם	עַל	מִנְשָׁה	לְאִמְרוֹ	מַה	נִשְׁתָּה :
	اور-بڑبڑائی	قوم-نے	پر	موسیٰ	کہتے-ہوئے	کیا	پہئیں-ہم
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H8354</a>

پہئیں؟ کیا ہم لگے، کہنے کر بڑبڑا خلاف کے موسیٰ لوگ کر دیکھ یہ

25	וַיִּצְעֶק	אֶל	יְהוָה	וַיִּזְרְחוּ	יְהוָה	وַיִּשְׁלַח	אֶל	הַמַּיִם	וַיִּמְתְּקוּ
	اور-فریاد-کی	سے	خداوند	اور-دکھایا-اسے	خداوند-نے	درخت	اور-ڈالا	میں	اور-میٹھے-ہو-گئے
	<a href="#">H6817</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H7993</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4985</a>

הַמַּיִם : שָׁם :  
 پانی وہاں رکھا اس-کے-لیے فریضہ اور-حکم اور-وہاں آزما یا-اسے  
[H4325](#) [H8033](#) [H2706](#) [H4941](#) [H8033](#) [H5254](#)

گئی۔ بو ختم کڑواہٹ کی پانی تو ڈالی میں پانی لکڑی یہ نے موسیٰ جب دکھایا۔ ٹکڑا ایک کا لکڑی اُسے نے اُس تو کی التجا سے رب لئے کے مدد نے موسیٰ بھی۔ آزما یا انہیں نے اُس وہاں دیئے۔ قوانین کو قوم اپنی نے رب میں مارہ

בְּעֵינָיו	וְהִנָּשָׂר	אֱלֹהֵיךָ	וְהִנָּה	אֶלְקוּל	תִּשְׁמָע	שָׁמוֹעַ	אִם-	וַיֹּאמֶר
نظروں-اس-کی-میں	اور-جو-سیدھا	خدا-تیرے-کی	خداوند	آواز	سنو-گے-تم	سننے-ہی	اگر	اور-کہا
	<a href="#">H3477</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H8085</a>		<a href="#">H0559</a>
אֲשֶׁר-	כָּל-	חֻקָּיו	כָּל-	וְשִׁמְרָתָ	לְמִצְוֹתָיו	וְהֶאֱזִינָה	اور-کان-دھرو-گے	تہے-گے
جو	بیماری	سب	سب	اور-محفوظ-رکھو-گے	احکام-اس-کے			
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2706</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H0238</a>		
ס	רַפָּאָה:	וְהִנָּה	אֲנִי	כִּי	עָלִידָךְ	אֲשִׁים	לֹא-	שָׁמְתִי
.	شفا-دینے-والا-تیرا	خداوند-ہوں	میں	کیونکہ	تجھ-پر	رکھوں-گا	نہیں	رکھی-میں-نے
	<a href="#">H7495</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>			<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4714</a>	

پر ہدایات تمام کی اُس اور دو دھیان پر احکام کے اُس کرو۔ وہی بے درست میں نظر کی اُس کچھ جو سنو! آواز کی خدا اپنے رب سے [غور کہا، نے اُس ہوں۔] دیتا شفا تجھے جو ہوں رب میں کیونکہ تھا، لایا پر مصریوں جو گا لاؤں نہیں بیماریاں وہ پر تم میں پھر کرو۔ عمل

וַיִּבְאֵר	אֵילָמָה	וְנָשָׂם	שָׁתִים	עֶשְׂרֵה	עֵינָת	מַיִם	וְשִׁבְעִים	תְּמָרִים	וַיַּחֲנִי-
اور-آنے	ایلیم-میں	اور-وباں	بارہ	دس	چشمے	پانی-کے	اور-ستر	کھجور-کے-درخت	اور-ڈیرہ-ڈالا
<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0362</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6240</a>		<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H7657</a>	<a href="#">H8558</a>	<a href="#">H2583</a>
שָׁם	עַל-	הַמַּיִם:							
وباں	پر	پانیوں							
<a href="#">H8033</a>		<a href="#">H4325</a>							

لگائے۔خیمے اپنے قریب کے پانی نے اُنہوں وباں تھے۔ درخت 70 کے کھجور اور چشمے 12 جہاں پہنچے ایلیم کر بو روانہ اسرائیلی پھر